


# کوچ



## اچھائی قابل



70 قابل

اچھائی بمقابلہ بے جسی

صدم اور عمورہ

پیدائش: 33-16:18

یاد کرنے کی آیت : ایوب : 14:6

”اُس پر جو بے دل ہونے کو بے اُس کے  
دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہئے“

اکھاڑے میں

اس ہفتے خدا سے دعا اور درخواست کریں کہ وہ آپ کے دل میں جذبہ بڑھائے۔ کوئی ایسا کام دیکھیں جو آپ دوسروں کے لیے کرسکیں اور اس سے آپ کا جذبہ بڑھے۔ کلیسا کے کسی شعبہ میں جائیں اور جانیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اُس پناہ گاہ میں اپنی خدمات فراہم کریں جس میں دوسروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یا دنیا بھر میں لوگوں کی ضروریات کے حوالے سے ویڈیوز دیکھیں۔ جہاں آپ حصہ لے سکتے ہوں وہاں لیں۔

**کوچ کے پرچے** "روح کے پہل سے بہادروں" کو خوش آمدید! آپ کا مقصد اپنے طالب علموں کو بہادر بننے میں مدد دینا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے، ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر روز کے عمل میں روح کا پہل ڈالیں۔

بہت سے اتوار اسکول کے پروگرام چرچ میں ہوتے ہیں اور اس میں ن ہفتے کے دوران گھر کے کام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا آپ کے طالب علم یہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں گناہوں کو "ناک آؤٹ" نہیں کر سکتے۔ انہیں لازمی حقیقت میں "رنگ میں" آنا ہوگا اور اصل گناہ سے لڑیں

ا ہوگا جس کا وہ ہفتے کے دوران مقابلہ کریں گے۔ یہ سچ ہے کہ کوئی ان نظر نہ رکھے تو یہ تقریباً ناممکن ہوگا۔ مہربانی فرما کر ان کے "لفظوں پر بھروسہ نہ کریں" بلکہ جب طالب علم کہیں کہ انہوں نے اپنا اسائنمنٹ کر لیا ہے تو اسے قبول کریں۔ اگر آپ اس پروگرام سے لاپرواہ ہوجائیں گے تو اس کا مطلب ہو گا کہ آپ اپنے طالب علموں کو جھوٹ بولنا سیکھا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تصور کریں کہ اگر ر آپ واقعی اپنے طالب علموں کے کوچ ہوسکتے ہیں اور راہ پر ہ یں تو وہ اپنا گھر کا کام کرتے رہیں تو آپ ان کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی دیکھ لیں گے۔ صرف 1 سال میں، آپ ان کی زندگی بدل سکتے ہیں! آپ کے طالب علم روح کا پہل یاد نہیں کریں گے لیکن حقیقت میں انہوں نے اس میں رہنا سیکھنا ہوگا۔

آپ کی ذمہ داریاں اپنے بچوں کے گروہ کے کوچ بنیں۔ ہر ہفتے کلاس سے 5 منٹ پہلے اور بعد میں طالب علموں سے ملیں اسائنمنٹ پر بحث کریں اور بہادر بننے کے لئے ان کی حوصلہ افزائیں کریں۔ ہفتے وار طالب علموں کو ان کی اسائنمنٹ کی یاد دہانی کے لئے فون کریں یا پیغام بھیجیں۔ (منگل تجویز کیا گیا ہے)

ہفتے میں دوسری بار طالب علم کو اپنی کئے ہوئے اسائنمنٹ کی رپورٹ لینے کے لئے فون کریں یا پیغام بھیجیں۔ (جمعہ تجویز کیا گیا ہے)

چھوٹے گروہ میں بچوں نے جو اسائنمنٹ کی ہیں ان کو دیکھتے رہیں اور اس کی ہفتہ وار رپورٹ لینے کے لئے فون کریں یا پیغام بھیجیں۔

رٹ ہیڈ کوچ کو بھیجیں۔



## 11 قابل

اچھائی بمقابلہ بُرائی

بیراڈ اور یوحنا بیتسمہ دینے والے  
لُوکا 3:18-20 ، متی 14:1-12  
یاد کرنے کی آیت :  
زبور 14:34

”بدی کو چھوڑ اور نیکی کر۔ صلح کا  
طالب ہو اور اُسی کی پیروی کر۔“

اکھاڑے میں

اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی برائی تو موجود نہیں جس میں کوئی شخص بظاہر کسی وجہ کے بغیر کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچا رہا ہو۔ اس ہفتے ، اس بے گناہ فرد کو بچانے کے لیے مداخلت کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈیں۔ اس میں گھر سے سکول جانے کے لیے مختلف راستہ اختیار کرنے میں مدد دینا، دوپہر کا کھانا فراہم کرنا اور اپنے ساتھ چار لوگوں کا گروپ لے جانا جو اُس (معصوم فرد) کے ساتھ چلے ، شامل ہے۔



## 12 قابل

اچھائی بمقابلہ نفسانی خواہش (ہوس)

بابل کی بلند عمارت

پیدائش 11:1-9

یاد کرنے کی آیت : لیپٹنز 2:3

”تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ  
کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو  
اپنے سے بہتر سمجھے۔“

اکھاڑے میں

اس ہفتے ایسا کوئی کام نہ کریں جو آپ کی شہرت یا مقبولیت کو بڑھانے کے لیے ہو۔ جب بھی ایسا کرنے کا کوئی موقع ملے تو اسے جانے دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اس مکار گناہ کو شکست دے پائیں گے۔



## 13 قابل

اچھائی بمقابلہ نجاست (ناپاکی)

یوسف اور فوطیغار

پیدائش 39:1-21


یاد کرنے کی آیت :

2 دوسرا تھسلیٹیکوں 1:11

”اسی واسطے ہم تمہارے لئے ہر وقت دُعا بھی کرتے  
رہتے ہیں کہ ہمارا خُدا تمہیں اِس بلاوے کے لائق جانے  
اور نیکی کی ہر ایک خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام  
کو قُدرت سے پُورا کرے۔“

اکھاڑے میں

اس ہفتے اپنے دل کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کے خلاف کچھ کیا گیا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ نے نہیں بلکہ کرنے والوں نے گناہ کیا۔ روزانہ دعا کریں، ”خدا، میں آپ کے سامنے پاک ہوں۔“ اگر آپ نے کسی کے خلاف کچھ کیا ہے تو خدا سے اور اُس شخص سے معذرت کریں۔ اس کے بعد آپ یہ دعا کرسکتے ہیں کہ ”خدا، میں آپ کے سامنے پاک ہوں۔“



# طالب



2

1

قابل

قابل

13 12 11 10

13 12 11 10

وار کرنا

وار کرنا

کانٹا

کانٹا

آر پار

آر پار

اوپر کی طرف کہن

اوپر کی طرف کہن

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

4

3

قابل

قابل

13 12 11 10

13 12 11 10

وار کرنا

وار کرنا

کانٹا

کانٹا

آر پار

آر پار

اوپر کی طرف کہن

اوپر کی طرف کہن

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

6

5

قابل

قابل

13 12 11 10

13 12 11 10

وار کرنا

وار کرنا

کانٹا

کانٹا

آر پار

آر پار

اوپر کی طرف کہن

اوپر کی طرف کہن

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

